

0× 0/0 53 m/0

UL 100011 LU 10 10 12511543 MENVA9

رِدْرُسْ سَرْسُ مَدْ: GS27/IULAN/2023/06

م. در مرکز و کربر مرکز در کربر مرکز در کربر مرکز ا

0,00,000 150 - 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	بر ترکز مرسو مرکز هایم
دُسَرُدُون مِنْ مِنْ مُرِدِّدُ دُورِمْ مُرْمُورُ مُرْمِدُ مُرْمِورُ مُرْمِدُ مُرْمُورُ مُرْمُورُ مُرْمُورُ مُر وسامرتموی سرسز: می مرمور دورمرس کرمونرسری مرموج و شرود مردر مرمورو	
ה מו ב בי מו ה ה מו מו ה מו	
ردِرُوَّهُ شَرَ مَارُهُ ثَرِ: GS27/IULAN/2023/06	1.1
ردور شهر مرد: 21 څير 2023	
﴿ وَمَرْ رُمَرُرُوْوَرُ مَرَى صُوْعِ مِنْ مُرْسُرُ: 06 فَى وَرِدِ 2023 فَى 14·00 فَى سِرِهَ وَرُرْ	
admin@thatollschool·edu·mv :E·mailمَرْ وَدِيْوَ مِنْرُ سُرُوَهُمَ مَدِ دَرَّهُمْ وَوَرَبْرَا اللهُ وَاللهُ	8.1
0 ((2) 7 - 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
ה מי בשינ היינות באילה באיני ג' מי בשינ היינות באילה באיני	
ره ربود / رو ا میس: می ارموع و فربوسه	
مَّرِيرِ ² : 18 نَهْ مَرِمِ 2023	9.1
ر ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،	
13:00 : 25	
י נו (0 נו (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
سَرَسْ: رِدْبِهِ رَدْ فِي اللَّهِ وَكُرْبُ وَكُرْبُ وَكُرْبُ وَكُرْبُ وَكُرْبُ	
x ، , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9.2
3 ئۇنىز سۇرىۋە ئە: 7964995	
رِدُرِوْ دُنْ مُرْفِ	
. 0 × 0 / / / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	13.1
0 / / / 0 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	
ים המבר הור ני באית: באינות באית: באינות	
عُرِيرُ: 24 نَهُ حَرِمِ 2023	18.1
مُرُوبُ : رَدُ مُرُوبُ الْمُرْدِ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ	
كَـْهِ: فُصْرَفْرِمْ 13:00 كَ _َ رِ	
ים כככם סקינק תקפנת ת	20.1
هُرْ: رِعْرِيرِ رَدِّوْ ا هِ.رَهْوْ وَعْرِيرَ الْ	20.1

عُرِرُ: 24 غُرَرِ 2023	
رُوُسُو: رُوُ مُروَسُو: مُروُسُو: رُوُ مُروَسُو:	
جَةِ: 13:00 يَعْرِ	
שלים באי באיל ביל ביל ביל ביל ביל ביל ביל ביל ביל ב	24.1
0) כ) אבר ברונים אור ברונים ב) אור ברונים ב) אור ברונים ב) אור ברונים ב) אור ברונים בין אור ברונים בין אור ברונים בין אור ברונים ברו	28.1
" " () " () " () () () () () ()	30.1

مر مورد و مردد و مردو و

האל בתקלם

- 2.1.1 ورُوْرِ بُرُدُيْ دُوْرُ مُنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُورِدُونُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ
 - 2.1.2 بُرُجْ سِرَ مرسورُ وَ وَسُرْسِرُ وَ وَرُسِرُ مِنْ عِسْمَ فِي سَمْ فِي مِنْ مِنْ مُورِدُ وَ اللهِ اللهِ وَمُرادُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّ

- 2.2 جو دُرُورُ گُرُورُ دُرِ مُرَّسُرِينَ اَوْ بُرُورُورُ دُرِينَ اَوْ بُرُورُورُ مُرَاسِ اَوْ بُرُورُ مُرَاسِ مُورُورُ مُرَاسِ مُورُورُ مُرَاسِ مُورِدُ مُرَسِّ مُرَاسِ مُورِدُ مُرَسِّ مُرَاسِ مُورِدُ مُرَسِّ مُرَاسِ مُرَسِّ مُرْسِلِ مُرْسِلِ
- 3.1 عَوْسُرُهُ مُرْسُرُ مُرْسُرُ مُرْسُرُ مُرْسُرُ مُرْسُرُ مُرْسُرُ مُرِّسُرُ مُرْسُرُ مُ مُرْسُرُ مُ مُرْسُرُ مُرْسُر

3.3.1 .3.3 ئۇرۇھ بوچى، ئىشۇسۇئىش ۋىشى شى يۇنگى بىلى دۇرۇ ئىش ئۇرۇئىش ھەلانىڭ ئۇرۇئىش ھەلانىڭ ھەلىنىڭ ھەلىنى

3.3.2 بُرُهُ سُرِ مِ مُوَرِّدُونَ وَسُرْجِ سُرَى بُرُهُ مِنْ الْمُرْسُرُ وَبُرُهُ مُرْسُرُ وَبُرُهُ مِنْ مُ وَوَدَرُدُ مِنْ مُورِدُونَ مُرَسُرُ مُرَّسُرُ مُرْسُرُ مُ مُرْسُرُ مُرْسُرُ مُرْسُرُ مُرْسُرُ مُرْسُرُ مُرْسُرُ مُرْسُرُ مُ مُرْسُر

3.3.2 كَائِرُمُوهُ ﴿ مُسَارِهُ مِهُ كَالَّهُ مُكْرِيرُهُ مِنْ الْمُرْكُ الْمُرْكُولُ هُورُورُورُ مِنْ الْمُرْكُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُولُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُل

3.3.4 ئۇتۇر وھۇرىكى دە ئورۇرى ئىرى ئۇنۇد ھۆرى دىرى ئورۇرى دىرى ئۇرۇرى دەرى دەرى ئۇرۇرى دەرى ئۇرۇرى دۇرۇرى ئۇرۇرى ئۇرۇرىيى ئۇرىيى ئۇرۇرىيى ئۇرۇرىيى ئۇرىيى ئۇرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرۇرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرۇرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرۇرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىرىيى ئۇرىيى ئۇرىيى

3.3.5 سَكُرُمُ لَهُ لَهُ لِهُ لِهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ ال

- 4. (رَرُعُيْمُ 4.1 هُوَوُرُ لَهِ وَهُو لَهُ مُرَارُونُ وَيُرَمُونُ وَيُرَدُونُ لَهُ الْمُرَارُ الْمَارُ الْمَارُ الْمُورُ اللهِ الْمُرَارُونُ اللهِ ا
- ٥٠ مُرْسِرْمُوْ اللهِ اللهِ

מל בני לתיתם אר

7.1 هِ وَدُودَوْ وِ وَرَسْمُ مُودَ رِ وَسَرْسِ مِدِدَدُو وَ فِي هُو وَ وَرَسْمُ مُادٍ. مَا وَرَسْمُ مُادٍ. وَرَسْمُ مُادٍ. وَرَسْمُ مُادٍ. وَرَسْمُ مُادُو. وَرَسْمُ مُادُو. وَرَسْمُ مُادُو.

7.1.3 دُرُهُ الْمُؤْدُةُ دُّسُرُو دُرِّ رِّدُا وَدُرُّ رُحُدُ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ ا

7.1.4 ئى ئىرۇرۇرد (ئىش ئىش سۇس 4-

7.1.5 كَاسْرُو مُرْكُو اللَّهِ اللّ

7.1.6 دره شوش (سور سور ۱۰۰۰ مرده موسور ۱۰۰۰ موسور ۱۰۰۰ مرده موسور ۱۰۰ موسور ۱۰۰ مرده موسور ۱۰ مرده

7.1.7 وَسُورُمُ مُورُ وَدُورُو مُو مِرْ شَوْسٌ لَا مُرْدُرُ (سَوْسُ مُورُ 7 مِرْدُرُ (سَوْسُ مُورُ - 7)

- 8. ﴿ وَحُوْدُو مُ مَرِّدُ مُرْدُو مُ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُّ مِرْدُو مُ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُ مُرَدُّ مُردُونَ مُونَا مُردُونَ مُردُونَ مُردُونَ مُردُونَ مُردُونَ مُردُونَ مُردُونَ مُردُونَ مُونَا مُ مُردُونَ مُونَا مُونُ مُونَ
 - מצית 8.2 היינון תשל באת מפשק ממפית המצאת כל באת בל באת בל הא הפיל המאחל. בנו בנו המו היינון הוו היינון היינו

مرتج سوه مر سرس مردد. در در و درد مراس.

בציע כפתב עלעם ב.

- 9. ﴿ وَوَ اللهِ مَا اللهِ وَ هِ وَوَ اللهِ مَا اللهِ وَ هِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ ال

- (ת) סת של האחת מעלית
- مَرْرَوْسُ وَرَرْرَوْسُ وَمَرْرُوْسُ وَمِ اللَّهُ مَرْرَوْسُوفُ رَسُرَوَ الْرَاسُ وَمِرْسُ مِهُ وَاللَّهِ مَا مُوسُوفُ وَمِرْ مَا مُرْسُونُ وَمُوسُودُوْ.
- 14. **دُرُمُرُهُ** 14.1 هِ وَسُرَيْرُهُ وَ مِ مُسَرِّسُ وَرِهُ مَ مُسْمِ وِدُسَسُ مُرَّسِ رِوَّوِرِ فَهُ مَ كَا مِ وَدُسَرُ فَرَوْرُوْ وَمُرَّمُ وَوَرَدُوْ مُسَرِّ وَوَقِرِ فَهُمْ 2 (مُرَمُ وَوَرَدُوْ وَمُرَمُّوْ وَ وَرَمُ مُرَوْد.
- 14.2 . دُرْمَرُهُ دُسُرُسُ وُسُرُسِ مُعْمِ وِرُنْدُرُ مِ وَسُرَوْهُو دُرِ هُرُسُرُسُو وَرُو مُرَّسِرُسُو وَرُو مُرَّسِرُسُو وَمِرْدُسُرُسُوهُ.

- 16.1.2 تَسْرُوْسِ ابِّرُهُ سَرَمَ سَوْبُو ا كَابُرُمْ عِ وَ الْمُسْمِرِةِ الْمُرْدُورُ وَكُرْثُرُورُ وَالْمُرَّعِ وَ الْمُرْعِ وَ الْمُرْمِيلُ الْمُرْدُورُ وَكُرُورُورُ وَالْمُرْمِيلُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمِيلُ وَالْمُرْمِيلُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمِيلُ وَالْمُرْمِيلُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُولِ وَالْمُرْمُ وَالْمُرِمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُرْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُول
 - - 16.1.4 وْمِرْوَنْمُ وْرِدُو صِوْمُ رْمَرْزُو وَمُرْهُو وَمُرْوَرِدُ (فَيُوْوَدُ 3)
- 16.1.5 يِ .دُسْ.جٍ بُرِجِ شَجْ بُرْ سُوْ جُورُنَا فَيْ وَمَا فَيْ وَمَا فَيْ وَمَا فَيْ وَمَا فَيْ وَمُرَدُ ا بُرِي سُوْعَ بِرِمَا ثَرُورُ بِهِ وَمِنْ وَمِدِ فَا مِرْدَ وَالْمِدُورُ الْمِنْ الْمِنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ ال

16.1.7 פין בעריקש לעלילים של ברשוב לעלים בי ביעריקש

- 16.2 . ﴿ وَمُرْدُ وَمُرْدُونُ وَمِرْدُونُ وَهُرُونُونُ هُورِ وِهُودُ هُورِ وِهُرُمُوهُ وَوُ شُومُ اللهِ وَهُر
- 16.2.1 ﴿ وَمَرْزَدُ وَسَهُ مَا هُدُوْ وَكَالَهُ وَسَهُ مَا هُدُو وَسَهُ مَا هُدُو مَا هُوَ وَهُ مُرْهُ هُدُو وَكَالُو وَسَهُ مَا هُوَ وَكَالُو وَكُلُو وَلَا فَيَعْلُمُ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلِي اللَّهُ وَلَا فِي وَلَا فَيْ وَلُو وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلِي وَلَا فَيْ وَلِي وَلَا فَيْ وَلِي وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلَا فَيْ وَلِي وَلَا فَيْ فَيْ فَاللَّهُ وَلَا فَيْ وَلِمُ وَلَا فَيْ وَلِمُ وَلَا فَيْ وَلِمُ وَلَا فَيْ وَلُو وَلَا فَيْ فَاللَّهُ وَلَا فَيْ فَاللَّهُ وَلَا فَيْ وَلِمُ وَلَا فَيْ وَلِمُ وَلَا فَيْ وَلِمُ وَلَا فِي وَلِمُ وَلَا فِي فَاللَّهُ وَلَا فَيْ وَلِمُ وَلَا فَيْ وَلِمُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَا فَاللَّهُ وَلِمُ وَلَا لَا لِمُعْلِمُ وَلَا لَا لِمُؤْلِقُوا وَلَا لِمُعْلِمُ وَلَا لَا لِمُعْلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلِمُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلِمُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلَا لَا لِمُعْلِمُ لِللَّهُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلِمُ لِلَّهُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلِمُ لِللَّهُ وَلِمُ لِلَّهُ لِلْمُوا لِمُواللِّهُ وَلِلَّا لِمُؤْلِكُمُ وَاللَّهُ وَلِمُ لَا لَا لِمُؤْلِمُ لِللَّهُ لِلْمُوالِمُ لِمُواللَّا لِمُواللَّهُ لِلْمُواللِّلِّي لِللَّهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لَا لَا لِمُؤْلِمُ لِلَّهُ لِلْمُؤْلِمُ لِلَّهُ لِلْمُؤْلِمُ لِللَّهُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلَّالْمُولِقُلُولُوا لَاللَّالِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلَّالِمُ لِلّا
- 16.2.2 هِوَمْ رَمْرَرُو وَمُوْوَ وَهِ وَهِوْ رَمِ عَالَمُونُ 4 وَمِرَوَ لَا مُوَرُو لَا وَمُورُو لَا وَمُورُو
- (ر) گارلان بر زُيْرِسْ وَهُمَ سَرُومَ سَعَجَ وَسَرَّهُ وَرُوَّ دُيْرُسُوهُ وَمِرْ وَيُمْرُهُ لِهُ وَرُوْمُ مِن مَوْدُورُ مِنْ يَحْصُهُ مِرْسُرُورُوْ وَيُرْمُورُودُ وَسُرَّةً وَمُرْدُورُ وَسُرْمُورُ.
- (س) ئۇرۇپ دارى ھىرى ھۇس دۇرى رسىدىرى ھىرى برۇنىر، سوچ دە ئىرۇپ ھىرى سەھ دۇرى دىرارۇسۇ شردۇ.
- مَرْدُو مِرْدُو مِرْد
- (ر) رَرُرُو مَرْدُو مَرْدُو مُرَادِ دُرِ مُرْدُو مُرْدُ وَرِيْدُو مُرْدُو وَرِدُو وَرِدُو وَرِدُو وَرِدُو وَرِدُو مِعْ دُرُدُورُ وَالْمُرْدُورُ وَالْمُرْدُورُ وَالْمُرْدُورُ وَالْمُرْدُورُ وَالْمُرْدُورُ وَالْمُرْدُورُ وَالْم
- - (0) תְּכָּהַל בַּנְבָּהָ בִּעִבָּתִי בִּעִיבְרָב עֹצִיבָּ בְּבְּעִינִים בּבְּנִבְינִים בּעִבּערבי.
 - 16.3 دُرُهُ مُ مُوْدُدُ وَ مِ مُرْمَدُونُ مُرِيرٌ رُمُرُونُونُ وِرُرُهُمُ
- 16.3.1 $<math> 2 \frac{1}{8} \sum_{i=1}^{8} \sum_{j=1}^{8} \sum_{j=1}^{8} \sum_{j=1}^{8} \sum_{i=1}^{8} \sum_{j=1}^{8} \sum_$

(مر) حوش رتزروس

- - 17.2 و دُرُدُ عُدُورُ مؤودُ سُرَا و دُورُد دُسْسَ مُورُدُو دُرُد دُسْسَ مُوسَرُدُو.
- 17.3 جوچ دُهُرِدُ مُسَرَّهُ وَهُمْ مُسَرِّهُ وَهُمْ مُسَرِّدُهُ وَهُمُ دُمُرُرُدٌ وَيُمَرُّوُ سَرَّهِ دُوْمُ دُمُرَدُ وَهُمُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مُسَادُوْ.
- 17.4 : دَرَرُدُ صِوْسُورُ رُسُسُرُسُوسٍ صَسْرَةً لَهُ وَوَرِدُ سِوعٍ دُهُرُورُ صِوْسُ مِنْ وَوَرَدُ اللهِ مَا اللهِ اله
- 18. و و مَسْرُدُونَ مِنْ وَمَ مَرْدُونَ مِنْ وَمَ مَرْدُونَ مِنْ وَمَ مَرْدُونَ وَمِرْدُونَ وَمِرْدُونَ وَمِرْدُونَ وَمِرْدُونِ مِنْ وَمَرَدُونَ وَمِرْدُونَ وَمُرْدُونَ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَا وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ والْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ و
- مَهُوَ يَهُ مُورُدُو وَهُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو وَهُو مُرَدُو مُرْدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرَدُو مُرْدُو مُرَدُو مُرَدُودُ مُرّدُودُ مُرّدُودُ مُرّدُودُ مُرْدُودُ مُرّدُودُ مُرَدُودُ مُرّدُودُ مُردُودُ مُردُودُ مُردُودُ م
 - 18.3. رِدُرِ دُرِ رُوْ مِنْ رِدْدُ دُرْدُ دُرُور مِنْ وَرُدُ دُرُور مِنْ وَمُرْدُ مِنْ وَمُرْدُ مِنْ وَمُرْدُ وَدُورُ مِنْ وَمُرْدُ مِنْ وَمُرْدُ مِنْ وَمُرْدُ مِنْ وَمُرْدُ وَمُرَدُ مِنْ وَمُرْدُ وَمُرَدُ مِنْ وَمُرْدُ وَمُرْدُ وَمُرْدُ مِنْ وَمُرْدُ وَمُرْدُ وَمُرْدُ مِنْ وَمُرْدُ وَمُرْدُ وَمُرْدُ وَمُرْدُ وَمُرْدُ مِنْ وَمُرْدُ وَمُرْدُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُرْدُ مِنْ وَمُرْدُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُدُ مِنْ وَمُرْدُونُ وَمُورُونُ وَمُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَالْمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَالْمُونُ وَمُونُ وَالْمُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ ولِنُونُ والْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ والْمُونُ ولِنُ والْمُونُ والْ

2/126 2/2/20 2/2/20 2/2/20 2/2/20 2/2/20

- - 20.2. ﴿ وَمُرْ رُوْوُرْ كُنْرُسُ ۗ ﴿ وَمُرْ مِهُ عَدُر عَدُونَا وَدُو دُوْدُو دُوْدُورُ
- 21. رَمْرَرُو وَ مُسْوَرُورُ وَ مِرْدُورُ وَ مِرْسُورُورُ وَ مُسْوَرُورُ وَمُسْوَرُورُ وَمُسْوَرُ مِمِورُ وَوَ وَمُسْوَرُ مِمِورُ وَوَ وَمُسْوَرُورُ وَمُورُ وَوَ وَمُسْوَرُورُ وَمُورُ وَمُورُورُ وَمُرْدُورُ وَمُوسِرُورُ وَمُرُورُ وَمُرْسُرُورُ وَمُرْسُرُورُ وَمُرْسُرُورُ وَمُرْسُرُورُ وَمُرْسُرُورُ وَمُرْسُرُورُ وَمُرْسِرُورُ وَمُرْسُرُورُ وَمُرْسُرُونُ وَمُرْسُرُونُ وَمُرْسُرُونُ وَمُرْسُورُ وَمُورُ وَمُرْسُورُ وَمُورُورُ وَمُرْسُورُ ورُسُورُ وَمُرْسُورُ وَمُورُ وَمُرْسُورُ وَمُرْسُورُ وَمُرْسُورُ وَمُرْسُورُ وَمُرْسُورُ وَمُرْسُورُ وَمُرْسُورُ وَمُرْسُورُ وَمُرْسُورُ وَمُورُونُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ ورُسُورُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ ولُورُ وَالْسُورُ ولَاسُورُ وَالْسُورُ وَالْسُورُ

22. ورُحْمَهُ (22.1 ورُحْمَهُ دِوْدُ الْعَالَمُودُ لَا يَرِيدُ وَيَرْدُونُ عَرِيدُ وَوَ الْمَاسُ الْمِدْرُونَ وَيُرْدُونُ وَرُسُرُونُ

127706

א 0 × 0 × 0 ע א עות ד עת ה- 9 עת

22.1.1 موروش سوري ويررو ويورو ويرموسوس

مَ رَسِعَ مُرَدِّهُ وَ مَرْدُورُو مُرَدِّهُ مُرْدُورُ مُرَارِدُسُو مِعْدُمُ مَا مُرَدِّسُ مَعْدُمُونُ مَا مُرَدُسُ (مُرْدِيْرُمُ وَسُرُمُ)

23. و وَهُوَمُوهُ 23.1 وَمُرَدَدُ وَمُرْمَدُهُ وَهُمُورِهُ وَوَرُدُجُ لَا يُرَوَدُ 22.1 وَرِوَ لَا يَوْمُورُو وَ وَمُرْمَوُدُ وَمِرْدُو وَ وَمُورُورُو وَ لَا يَوْمُورُورُو وَ وَمُورُورُونُ وَ وَمُرْمَوُدُو وَ وَمُرْمَوُدُو وَ وَمُرْمَوْدُو وَ وَمُورُورُونُ وَ وَمُورُورُونُ وَ وَمُرْمَوُدُو وَ وَمُرْمَوْدُو وَ وَمُورُورُونُ وَ وَمُورُورُونُ وَ وَمُورُورُونُ وَ وَمُورُورُونُ وَ وَمُورُورُونُ وَ وَمُورُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُورُونُ وَمُورُورُونُ وَمُورُورُونُ وَمُورُورُونُ وَمُورُورُونُ وَمُورُورُونُ وَمُورُورُونُ وَمُورُورُونُ وَمُورُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُونُ وَمُورُونُ وَمُونُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُورُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُولِقُونُ والْمُونُ و

כ כ 0 ע זקנית

24.0 ﴿ وَهُوْ مُرَاكُونُ مُرَاكُونُ مُرَاكُونُ مُرَاكُونُ مُرَاكُونُ وَالْمُرَاكُونُ الْمُرَاكُونُ الْمُراكُونُ الْمُراكِونُ الْمُراكِ الْمُراكِونُ الْمُراكِ الْمُراكِونُ الْمُراكِ الْمُراكِونُ الْمُراكِي الْمُراكِونُ الْمُراكِونُ الْمُراكِونُ الْمُراكِونُ الْمُراكِونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ

0 % 1 8 × 3

226

25. مِدْرُوْرُوْرُ وَمِرُورُ وَمِرُورُ وَمِرُورُ وَمِرُورُ وَمِرُورُ وَمِرَورُورُ وَمِرَورُورُ وَمِرَورُورُ وَمِرَورُورُ وَمِرَورُورُ وَمِرَورُورُ وَمِرَورُورُ وَمِرَورُورُ وَمِرَورُورُ وَمِرْمِرُورُ وَمِرَورُورُورُ وَمِرَورُورُورُ وَمِرَورُورُورُ وَمِرَورُورُورُ وَمِرَورُورُورُ وَمِرَورُورُورُ وَمِرْمِرُورُ وَمِرْمِرُورُ وَمِرْمِرُورُ وَمِرْمُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرْمُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرَامُونُ وَمُورُورُورُ وَمُرَامُونُ وَمُورُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُورُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُورُ وَمُرَامُورُ وَمُورُورُ وَمُورُورُ وَمُور

> אר מכונט אר מפאא

19 8 8 3 3

ממית התפת

27.1 مَدْهُ مَوْدُوْهُ وَ مِرْهُ مَا وَرُدُوْهُ وَمِرْهُ وَمُرْهُ وَمُرْهُ وَمِرْهُ وَمِرْهُ وَمُرْهُ وَمُوالِكُونُ وَمُرْهُ وَمُ وَمُرْهُ وَمُ وَمُوالِكُونُ وَمُ وَمُرْهُ وَمُوالِكُونُ والْمُونُ وَالْمُونُ ولِمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالِمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ

مِرْنَ مُرَدُورُ وَرَّ مُرَّمَّرُ مُرَدُّ وَرَّ مُرَدُّرُ مِرْدُورُ مِرْمُورُ مُرَّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُرَدُّ مُر سُرْنَ مُرَدُورُ وَرِرُورُ وَرَّ مُرْمَامُ مُرَّوَدُ مِرْدُورُ مِرْمُرُورُ مِرْمُورُ مُرَّ مُرْمُورُ مُرَّوْرُ 27.3 دُرُهُ مُوْوَدُ دُرِ جَرِنَ بُرُونُ وَرُورُ وَ جَدَنَهُ وَرَنْ وَرَبُورُ وَرَبُورُ مَرْهُ مُوْمُ دُرُهُ ف جَرِنْ بُرُونُ وَرَنْ وَرَالِهُ وَرَدُورُ وَرَالُهُ وَرَدُورُ وَرَالُورُ وَرَالُورُ وَرَالُورُ وَرَالُورُ وَرَا وَجِرْدُرُورُونُ وَرَالُورُورُ وَرَالُورُورُ وَرَالُورُ وَرَالُورُ وَرَالُورُ وَرَالُورُ وَرَالُورُ وَرَالُورُ

28.0 مع موروع 28.1

.28.2

28.3 ﴿ وَمُورُ مُورُدُ وَمُرَّوُ دُمُ مُورُ دُمُ مُرَّدُ وَمُرَّوِدُ وَمُرِدُ مُرَّدُ وَمُرِدُ وَمُرِدُ مُرَّدُ وَمُرَدُ وَمُرْدُونِ وَالْمُونِ وَمُرْدُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَمُؤْدِدُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْدُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُؤْدِدُ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُؤْدِدُ وَالْمُونِ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْدِدُونِ وَالْمُؤْدِدُ ولِنَا لَالْمُونِ وَالْمُونِ ولِنَا لِمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ ول

28.5 و يُ سُرِرُ و دُورُورُور و يُ رُسِرَء مُرس وَرِدُسْ وَرِدُسْ 30 وَوَرُو.

29. مَعْ وُسُرْبُ

تُرَبِّ مُعَ (29.1 وَوَسَمُرُ مَا وَسُرَّ وَرَبُّ وَرَبُّ وَرَبُّ وَرَبُّ وَرَوْدُ رَوْعَ رِ وَمُرْسُرُوْدُوْ. مُعْ وَسُرْبُ وَرَبُّهُ وَ

، ، ۵ د د برسر ج پ

31. - 31. -

آرِدُ وْحْرِدُوْسُ وْدْرُوْسُ وْرُسُونُ مِ وَرُسُونُ مِرْدُ وَدُرْدُوْ كَوْدُ وْحَرُوْلُ اللّهِ وَدُرُولُ اللّهِ وَدُرْدُولًا كَوْدُوسُ وَوْدُوسُ وَدُرُولًا كَوْدُوسُ وَدُوسُ وَالْمُوسُ والْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُ وَالْمُوسُ وَالْمُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَال

- 32. وَهُ مَوْ وَ وَرُسُو وَوَرُ الْوَسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَلَا وَرُو وَلَا وَرُسُو وَرُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُو وَرُسُو وَرُسُو وَرَائِو وَرُسُو وَالْمُو وَلَا وَالْمُوا وَلَا وَالْمُوالِو وَلَا وَالْمُوالِقُو وَالْمُوا وَلَا وَالْمُوالِقُو وَلَا والْمُوالِقُو وَلَا وَلَالْمُ وَلَا وَلَالْمُوا وَلَا وَلَالْمُ وَلَا وَلَالْمُولِولُو وَل

ئے ہو سکو سکو ہے 3

- 33. وَسَرَمْ مُوسُ مِنْ مَا هُذَا الْحَسَادُ مَا مُؤَدَّ وَمِرْ مُرَّالًا مَا مُرَدِّهِ مَرْفَهِ مِنْ مَرْدُو مُرَافِرُهُ مَا مُرْفَعُ وَمُرْتُرُسُوا مُرْدُو.
- 33.3 اَوْ سَرْدُورُ وَ سَرْدُرِدُوسِ مِ رَسَ سَمِعْ دَرِ هُرَسَرُ تَرْدُو بَرْدُورُ مِرْدُهُ مِرْدُهُ مِنْ مُ

- 33.4 "وَسَهُ رَمَّهُ وَ رَدُ" مَوْرُ فَسَرَوْرِدُوسِ دُرُهُ فَوَّدٍ دُرُدُورُ وَسَهُ مَاهُ. وَبِرَرُونَا يُرْوَنِ وَسَهُ رَاهُ وَالْمُ رُودُولًا وَيُرْمُورُ مُرْدَاً وَرَسَّادُرُو.
- 33.5 "دُرُهُ الْمُوْرُدُ" الْمُرْهُ الْمُورُدُ الْمُرْدُرُدُ الْمُرْدُدُونُ الْمُرْدُدُونُ الْمُرْدُونُونُ الْمُرْدُونُ الْمُونُ الْمُرْدُونُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْ
- 34.2 دُدُوَمُ مُنْ دُرُدُ وَمُمَّرُ وَمُرَّوَ وَمُرْ مُدُونِهُ مِنْ دُرُونِهُ مُرَّدُ دُونُ مُرَّدُ دُونُ مُرَا عُدُونُ مُرَا مُرَّدُ دُونُ مُرَادُونُ مُرادُونُ مُر
- .35.1 -35.0
- رَوْرِنْهُ مِنْ مُرَدِّ مُرَدُ رَوْرُنْهُ مِرْدُورِ مِرْبُ وَسَامُورُ مُرَدِّ مُرَدِّ وَمُرَدُّ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مِرْدُورُ مُرْدُورُ مِرْدُورُ مُرْدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرْدُورُ مُرْدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرُدُورُ مُرَدُورُ مُرُورُ مُرَدُورُ مُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُورُ مُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُرَدُورُ مُورُورُ

- 37. **دُرُدَهُ الْهُ وَ الْهُ اللَّهُ ال**
- 37.2 ئَرْسُرُهُ رُوْرُو کُرُمُوکُ گُرُسُرُکُ کُرُدُ شُوْمُ کُرْکُمِ بُرِسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مُورُ اللهُ ال

- ئۇرى ئەرى ئەرى ئەرى ئەرى ئەرىكى ئۇرۇرى ئەرى ئەرى ئەرى ئەرى ئەرى ئەرى ئەرىكى ئۇرۇرى ئەرىكى ئۇرۇرى ئۇرۇرى ئۇرۇرى ئەرىكى ئەرىكى ئەرىكى ئەرىكى ئۇرىكى ئۇرۇرى ئارىكى ئۇرۇرى ئۇرۇرى ئۇرۇرى ئۇرۇرى ئۇرۇرى ئۇرۇرى ئۇرۇرى ئۇرۇرى ئۇرۇر ئۇرۇرى ئۇرۇ
- 37.3 دروس سوه مار در درور در درور درور درور در درور در درور در درور در
- 38.1.2 دُرُهُ وَ وَوَ وَرِ وَسَرَوْرِهِ وَقَرَّرِ مِنْ وَرَوْرَ مَنْ مَامِوْدَ دُوْرَ مَنْ مَامِوْدَ مَرَوْدَ عَرَفُودَ عَرَفَوَ وَسَرَّمَ وَكُورُ مَا مِنْ وَرَوْدَ عَرَفُودَ عَنْ عَرَفُودَ عَنَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْعُلَا عَلَا عَلَا
 - - 38.1.4- سَرُوْسٌ نَعْرَقُهِ نِوْتُونٌ هُمَامِ وَرُهِ وَهُنْسٌ.
- 39. مُرْسِرُسُ 39.1 و مُدُمُ الْوُوْدُ و مُرْدُمُ الْوَدُورُ وَدُرُدُورُورُ الْمَدُمُ الْمُورُ اللهُ الل
- 41. مُرْهَ مُوْدَ دُرُدُ وَ رُرُهُ مُوْدَى رُوَّ رُرُوْمَ دُّرُورُ دُرُورُ دُرُورُ دُرُورُ دُرُورُ وَ دُرُورُ وَ دُرُورُ مُرْدُورُ دُرُورُ وَ دُرُورُ وَ دُرُورُ وَ مُرْدُورُ دُرُورُ وَ مُرْدُورُ دُرُورُ وَ مُرْدُورُ دُرُورُ وَ مُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرُورُ وَمُرْدُورُ وَمُورُورُ وَمُرُورُ وَمُرْدُورُ ورُدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُرْدُورُ وَمُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ و

מ מ ת ב מ מ מ מ מ מ מ ת ת ב מית מ מית

42. مُرْهُ مَنْ وَوْرِبُرْدَ عَنْ وَهُ رَبُرُهُ مِنْ وَوْرِبُرْدَ عَنْ اللهِ عَرْوَرِبُرْدَ عَنْ اللهِ عَرْوَرِبُرُدَ عَنَّ اللهِ عَنْ وَوْرِبُرْدَ عَنْ اللهِ عَنْ وَمُورُونَ وَمُورُونَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلْ

/ טק צ'עק / עק צ'עק !! כדי ד ?' טק טק

4 - 26 26

ر د ر د ر ه خ تر و جر م

ئے قروز – 1

| | מנים ארים מנים מנים מנים מנים מנים מנים מנים מנ | # |
|--------------------|---|-----------------|
| م و و و د | יתולוג פאצור ל לרכל אם החלה את החתפת בם מפשל בישי בישי | ه توکسر |
| | 2 2 2
MR C - | 44 C 2 |
| | ۵ و سرار از | 1 |
| | ئىش ۋىر ابر ھى سرىر سوبۇ / كې ئىچو قى ئىس ئىرى / ئىرى ئىرى ئىرى ئى ئىرى ئىرى ئىرى | 2 |
| | (n.n.a / n.a ev) 828-1, 2/2/2 | 3 |
| | رسررنا وشره و هر و (مرد در د | 4 |
| | الله الله الله الله الله الله الله الله | 5 |
| | שלכצת התעצכצ לתל לפא תל תשאת) | 6 |
| | ور و و و و و و و و و و و و و و و و و و | 7 |
| | 6.1 פֿית ברוב צור ב שרת הל ברוב הל ברוב הל ברוב הל ברוב ברוב ברוב ברוב ברוב ברוב ברוב ברו | 8 |
| | מסר מים מסר מים ריינים מאססיים מאססיים מאססיים מאסיים מאס | 9 |
| بر رائش | י אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי | ه توکسر
در م |
| | 6 | سروه. |
| | ליני ליני ליני ליני ליני ליני ליני ליני | 10 |
| | دُّرِ دَرِدِ (الله عَمْدُ عِلَّهِ مَامُعِ الله مَامُعِ الله وَسِوعِ وَمَر) دُ دِرُسُرْهُ دُمِر عَامُونُو 4
وَبِرَوَمُورُ رَمْرَاءً وَدِ | 12 |
| د د د د
د برح د | רווי ב ב או | ه توسر |
| | ננט מרו מון מון מון מון מון מון מון מון מון מו | |
| | מונים אל מונים לי מונים לי מונים אל מו
מונים אל מונים אל מו | 13 |

| ب ور سرس می کا ور (می کا ب وری کا کا میرس می کا کور کا کا کا کور کا | 4.4 |
|--|-----|
| ט א איר ב ב א א איר א א איר א א א איר א א איר א א א א | 14 |
| 13 × × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 | 15 |
| מילכצ ציתו פאר נא פאר מיל של מיל קאר מיל אל איל מיל אל איל מיל אל איל מיל אל איל איל איל איל איל איל איל איל | 16 |
| 0/02 (10///2 0 2 1272 × 1270
מאמת מתמאל תחומל תחומל אל תחומל אל | |
| كُورُوسْ بُوسْ سُرْسُ وُرِبُ مُرْسُارُونَ وِرُونَ يَدِي (رُسُرُو وُرُسْ عُرِدُ رُرُدُ دُعِ | |
| وَوُرْجَ وْسْ سْرْهُ سْرُو سُرُو سُرُو مُرْ وَسُرُسُ مَرْ وِرَسْ وِرَوْ وِرْسْ (وَرْسَ وَرُوْ وَرُسْ 3 وَسُو | 17 |
| ("") | |
| ("") | |

2 - 3/3/ غرور - 2

00 11/13 01 73 5151 590

| | > />> /
& 2 f A 2 | | 1 |
|--|--------------------------------|---|-----|
| | 7.7.7. | سرَسْر | 1.1 |
| | | 0 ' 0 '
2 × 4 '' | 1.2 |
| | 2/22/ (0 | 0(×0 %//> 0/ | |
| | \$7797 381 | מיתיית תיקתת ו' המש"ח
0 × 2 0 0 2 0 0
1 המש מש 2 ייתיית | 2.1 |
| | | ת התלים על של של | 2.2 |
| | | 2103 111 1113 | |
| زرُزُ رُدُو (جِ.مُ-رِج رِدَسَرِدِيْر) | | رعررء مرءم ومردرم | 3.1 |
| ردو رد در چ. در | | , > , - 0 > | 3.1 |
| | (0.2 | 50, 702;
504, 702; | |
| | . بواروتر) | فحرور کرد (هُنزرِس | 3.2 |
| מתב החלצה פע פעת פחש הג פע תריישע שהחת עמבת | | | |
| 3/ 1/0 0 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 3/10/2 2/9/9 | 3.3 |
| , ם הם כם כם תם לה) ה
פתות "בנותנות תותנות לה לה
" | | | |
| | اعدد روسرریس | وُدورُ
وُدورُهُ (صَّرَوْدُورُوَ | 3.3 |
| | . האל האל | () | .4 |
| מ בממק ל מין אין אינוניון אין אינוט אין | وگا وکسورکرکور | ה ל הל | |
| الرو دُرُو الله الله و وسام من الله الله و ا | | | 4.1 |
| | | 0 | |
| رِوْدُوْهُ وَمُرْمِرُوْهُ رَوْدُوْمُوْهُ سِرِسْوُدِرِ وِسُرُونُ مُنْسِرُهُ وَمُرِوْسُونُ مُنْسِرُهُ سُرُّةً وَ
الْمُرْبِرُوْهُ وَمُرْمِرُسُوسُ رَوْدُنِي مِنْسُ سِرِسْوَدِرِ وِسُرُونُ مُنْسِرِ وَسُرُو | | / | |
| _ | | /uc coc/o> | 4.0 |
| وَرُرُهُ 3.3 كُرِهُ وَمُرْمُوكُمِ وَسَمِدُمُ وَرُوْمُ وَيُرْمُرُومُ وَيُرْمُرُومُ | و وسمدره ووه | | 4.2 |
| | | ر در | |
| ים יום ירבי אינו הממנים אינו ביינו אינו ביינו אינו ביינו ביינו ביינו ביינו ביינו ביינו ביינו ביינו ביינו ביינו
האינו בשת האינות המלח המלח המלח הבתמול האינות המלחה ביינו | 30 فر <i>ۇڭ رۇ</i> ۇش | 11113 01
85121 2403 | |
| 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, | 02 (1000
100 000
100 000 | / ה'צ'ב'ת ב' ה' ה' | 4.3 |
| 00000000000000000000000000000000000000 | مورير برير
مورير سرير | ים בית בית כי תחשים
בית בית כי תחשי | |
| | | 0 7 % 1 | 5 |
| | | | ہد |
| | | | |

| | سرُسْر |
|---|--------|
| 364.7%
2860 | 287 |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | مُ برز |

3 - 3636 (412 2462 8764

| | 24322 (24.2 41.12
\$2442 (24.2 \$1.2) | : .1 |
|---|--|------|
| | سَرُسْر | -1.1 |
| | برُح سوم پر مرو زرو دی برس | -1.2 |
| | و الرئير العام الم | -1.3 |
| | برُح <u>۵</u> ۵ ۵ مر ۶ ۶ مرکز ۵ مر ۶ ۶ مرکز ۵ مر | -1.4 |
| | ع ص کار در | -1.5 |
| | يع ارراء ، ج ج عار سر عار ها ير | -1.6 |
| | 2 - 2 - 2 - 2
קייק ייקייקניס זק
קייק ייקייקניס זק | -1.7 |
| | 0 000 0 C
NENE NEXT | -1.8 |
| מני מ לל 20 מנר לל מי | | .2 |
| ، ر " د ، ر د د " د)
و بر و بره د د و و و ه) | ב' ב | |
| 253 | | # |
|) מ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | |
|) 0 l
2 r v v 3 r
1 | | |
| , o c
2 x v s x | | |
| | | |
| | 40 C X O C V V V V V V V V V V V V V V V V V V | .3 |
| | | |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | | |
| 3,2°°° - | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | 1 |
|--|---|

عُرُورُ - 4 وَيُو مُسْرُورُ صُرِدُرُدُ مِنْ وَرُدُورُهِ وَيُو مُسْرُورُ صَرْدُرُورُهِ

| | | | 74777 (7100711 (741 4117
\$7447 SV\$&PAVA S\$KJ Y1Y1 | ه نوشر |
|---|---------------------------------------|--|---|--------|
| نو و دری صورترب
ورفور نرورتروس () | وم ا | י - כי |) א כם כם אינים | # |
| | | | | |
| | / 0 3
/ 2 d | | י דע אין | 2 |
| تُورِسَّهُ دُوَةُ
(فِرِوْرِ مُرْوِدُّرِسْ) | ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב | ו'ת פית פתני | | # |
| | | | | |
| | / 0 2
/ 2 E | | | |

خَيْرُوُوْ - 5 وُرِمُوهِ 3 (مِسْرُمُ) دُرُنْرُهُ مُعْرُدُرُ مُسْرُوُرِةٌ دُنْرِسْرُمِرِ دُسَادُمُومُورُ

| | | و درورد درورد درورورورورورورورورورورورور | 2022 1 10x (21/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1 | ر
پوسر ر |
|---|-----------------------------------|--|--|-------------|
| دُسَرُهُ رَدُّهُ مُدُّدُ
(دِوْرِ تُرْدِمُرُمِسُ) | 20101-3
2010-3
3110
2110 | 011 (0710) 1
C-101402 84840 | י ים יבי יים
בי-הממפ ייניית | # |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | :500
500 | | | ı |

6 - פלפל - 6 ב ב פלפל ב פליט ב פליט

| | | | ת פתח הלית בית בית בית בית בית ב |
|--|-----|---|---|
| 2 (2) 0
2 (8 2 m
2 (0) 0
2 (0) 0
2 (0) 0
2 (0) 0
3 (0) 0
3 (0) 0
4 (0) 0
5 (0) 0
5 (0) 0
6 (0) 0
6 (0) 0
7 (0) 0 | * | א פיט א א א א א פיט א א פיע | ארית של הליל לא הליל ל
אורים לא הליל ל |
| 30 | 60 | رَبِرْءِ رُبِیْ وَ رُبِیْ کَرْدِ رُدُو اَرْدُ اِلْمَالِمُ اِلْمَالُو اِلْمَالُو الْمَالُو الْمَالُولُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمِدُ الْمَالُولُ الْمُلْمِدُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلُمُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ لِمُلْمُ | ? / A |
| 10 | 20 | 20 × مَرْرَةِ دُرْرَةِ وَدُورَةِ / رَبْرَءِ وَدُورَةِ كَالَّهِ وَدُورَةً كَالَّهُ عَلَيْهِ كَالْمُ وَدُرُورَةً وَدُورَةً وَدُورَةً وَدُورَةً وَدُورَةً وَدُورَةً وَدُورَةً وَدُورَةً وَدُرَرَةً وَدُورَةً وَدُرَرَةً وَدُورَةً وَدُورَةً وَدُورَةً وَدُورَةً وَدُورَةً وَالْمُرَاءُ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِا وَالْمُولِ وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِا وَالْمُولِ وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِا وَالْمُؤْنِ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِوا وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُ | 7 / 0 7
7 N. H. R. |
| 3 | 10 | | # 2/ 62/0//2
Ex 28 28/20/2 |
| 2 | 10 | לת'ל ב פ ת ל / לת'ל המל ב פ פ פ ת א א 10 א מל ל ב פ פ פ ת ל א א 10 א מל ל ב פ פ פ פ פ א א מל ל ב פ פ פ פ פ א מל א מל א מל מל ב ב מל ב ב מל מל ב ב ב מל מל ב ב ב מל מל ב ב מל ב ב ב מל ב ב ב מל ב ב ב ב | מר ה
הל הל הל הל
מר הל |
| 45 | 100 | | 703
728 |

ع مرفور - 7 ع سائر مرجو مائر مرجو

Form of Bid Security (Bank Guarantee)

| WHEREAS, |
|---|
| |
| KNOW ALL PEOPLE by these presents that We |
| SEALED with the Common Seal of the said Bank thisday of |
| THE CONDITIONS of this obligation are: |
| If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid; or If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of |
| Bid validity: |
| (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27, |
| * The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders. |
| we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions. |
| This Guarantee will remain in force up to and including the date |
| DATE |

| WITNESS SEAL |
|--|
| [signature, name, and address] |
| 8 - 26 ع
تا تروفر عام عام
پر تروفر سرم کا موسرم |
| Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional) |
| To: |
| WHEREAS |
| AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Ban Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations is accordance with the Contract; |
| AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee; |
| NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier up to a total of * |
| *An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa. |
| We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with th demand. |
| We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Work to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and th Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of an such change, addition, or modification. |

This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.

مردود ورده مردود مردد دردد

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR

Date

9 - 2022 2020 ב 2022 12 פיתוש "גדיתש ב זמתש 12 פיתוש "גדיתש ב זמתש

سؤلامئوس _ 5

| א פ ט ט פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ פ | |
|--|---------------------------|
| 0/0 0// U>#0(00× | بر تَوْ بَرُسْرِبُ |
| ארים מים אים אים אים אים אים אים אים אים אים א | יו מ' מ' ב
מקמק דים הק |
| ים אינו אנדיני
באית באפב בחתבה
באית באפב בחתבה | |
| سَرُسُر: | 33.1 |
| ٥ ، ٥ ،
اد کا مرسو: | |
| 2/22 / 10
82/22 5/25 VA9 | |
| سَرَسَر: | 33.2 |
| ، ٥ ، ٥ ،
اد ک مرسم: | |
| 74337 62701 1
'SOZHAZ SSVAFUZ | 33.3 |
| :31 (3101)
:31 380107 | 33.4 |
| 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / | 37 |

مرده مورو مرده مورو

| 'کُسُرْسُرُ کُرُمُو") گرر | تؤرشر " | 57 | 15336 | مر در در کا | •) | | | | وَسٍ، | وتزم | د بر
مربر | ەرھ | ء
د برد | ,, , | | | |
|---------------------------|---------|------------|-------|------------------|-----------------------|---------|---|----------------------|-------|-------|--------------------|-----|------------------|------|--------|----------------|-----|
| | 52/2 | <i>ۇسۇ</i> | ••••• | ئىرى
ئىرىمىر، | زِگرو _{ار} س | عرف قر، | 5 | : گراه ")
زیره ") | ورساء | נית " | ع کر ا
پی کر کر | 2 1 | 1 2 3
1 2 9 1 | رده | (دِ ہُ | | |
| | | | | | | | | | | ء . | ; ; | و د | (| |) | ،
د ۰۰۰۰۰۰۰ | 575 |

1. دِ دُرُهُ الْدُهُ الْوُوْدُ دِ هُرُسُرُ مُرُورُ وَ الْمُوْرُهُ مُرِّدُ رُدِ دُرِ دُرِ دُرِ الْدُهُ الْوُدُو دُسْمُ وُرُدُدُ شَرْعُ دِسْمِ وَرُدُ صُرْسُرُ مُرُورٌ وَمُؤْرُ صُوسُولُ مِنْ دُرِ دُرِ دُرِ دُرِ دُرِ دُرِ ال

| ر ۱۵٬۲۰ ، رود در | :000 100000 |
|--|----------------------------------|
| ِيرِدِ:
 | :برد: |
| سَرَسْر: | يترَيْر: |
| :0%
:282 | : 2 % 2 |
| ? 101
:27518 | ; 2 / 0 / 6
3 / 2 / 2 / 5 / 6 |

| رُسِيرُ: | رُسِي: |
|---|---|
| :n× | : • * · · |
| ستريش: | سَرَش: |
| : 253 | :5 = 5 |
| :#2:25 | :#2.77 |
| \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | בייינים יונים יונים יונים בייינים ביינים ביינים ביינים ביינים בייינים ביינים בייינים בייינים בייינים ביינים ביינים ביינים ביינים ביינ |
| ;7× | :,, * |
| | سَرَيْر: |
| : 3 \$ 5 | : 5 . |
| :#2.75 | :# ₂ ·,,, |
| 7.2 | |
| 5 20 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |